



النِّسَاء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا اور پھیلا دیئے ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورتیں۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے وہ ہستی کہ سوال کرتے ہو تم ایک دوسرے سے جس کے واسطے سے اور رشتوں سے۔ بیشک اللہ ہے تم پر نگہبان۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

اور حوالے کر دو یتیموں کو ان کے مال اور نہ بدلو برے مال کو پاکیزہ مال سے۔ اور نہ ملا کر کھا جاؤ ان کے اموال کو اپنے اموال کے ساتھ۔ یقیناً یہ ہے گناہ بڑا سخت۔

وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

اور اگر تم کو خوف ہو کہ نہ انصاف کر سکو گے تم
 یتیم (لڑکیوں) کے بارے میں تو نکاح کر لو ان
 سے جو پسند ہوں تم کو (ان کے سوا) عورتیں
 دو یا تین یا چار۔ پھر اگر اندیشہ ہو تم کو کہ نہ
 انصاف کر سکو گے تو بس ایک یا وہ جس کے
 تم مالک ہو۔ یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ
 نہ جھک پڑو (نا انصافی کی طرف)۔

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي
 الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَ ثَلَاثًا
 وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

اور دے دیا کرو عورتوں کو ان کے مہر خوشی
 سے۔ پس اگر وہ چھوڑ دیں اپنی خوشی سے
 تمہارے لئے کچھ اس میں سے از خود تو کھا لو
 اسے مزے سے بے کھٹکے۔

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ
 طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
 فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

اور مت حوالے کرو کم عقولوں کو ان کے مال
 جسے بنایا ہے اللہ نے تمہارے لئے سبب
 معیشت۔ اور کھلاتے رہو انہیں اس میں سے
 اور پہناتے رہو انہیں اور کہتے رہو ان سے
 معقول بات۔

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي
 جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ
 فِيهَا وَ اكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا
 مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

اور جانچتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ جب پہنچ

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

جائیں وہ عمر نکاح تک۔ پھر اگر دیکھو تم ان میں فہم تو دے ڈالو ان کو ان کے اموال۔ اور نہ اڑا دینا اسے فضول خرچی اور جلدی میں کہ ہمیں وہ بڑے ہو جائیں۔ اور جو ہو آسودہ حال تو وہ پرہیز کرے (ایسے مال سے)۔ اور جو ہو ضرورت مند تو چاہیے اسے کہ کھالے مناسب طور پر۔ پھر جب حوالے کرنے لگو انکو انکے اموال تو گواہ کر لیا کرو ان پر۔ اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔

فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشِدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

مردوں کے لئے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قریبی رشتے دار۔ اور عورتوں کے لئے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قریبی رشتے دار۔ اس کا تھوڑا ہوا سمیں یا بہت۔ یہ حصے ہیں مقرر شدہ۔

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

اور جب آجائیں میراث کی تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار اور یتیم اور نادار لوگ تو دے دو ان کو کچھ اس میں سے۔ اور کہو ان سے معقول بات۔

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر چھوڑ جائیں وہ اپنے بعد اولاد ناکو تو ان کو خوف ہو ان کی نسبت۔ پس چاہیے کہ ڈریں وہ اللہ سے اور چاہیے کہ کہیں بات درست۔

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَ لِيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٦٦﴾

یقیناً وہ لوگ جو کھا جاتے ہیں اموال یتیموں کے ناجائز طور پر در حقیقت وہ بھرہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ۔ اور عنقریب داخل ہو جائیں گے وہ بھڑکتی آگ میں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿٦٧﴾

وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ اولاد کے بارے میں مرد کا حصہ برابر ہے دو عورتوں کے حصے کے۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيٰنِ ﴿٦٨﴾

پھر اگر ہوں عورتیں ہی دو سے زیادہ تو ان کا حصہ دو تہائی جو چھوڑا ترکے میں۔

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴿٦٩﴾

اور اگر ہو لڑکی ایک ہی تو اس کا حصہ نصف۔

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴿٧٠﴾

اور اس (میت) کے ماں باپ کا ہر ایک کے لئے دونوں میں سے چھٹا حصہ جو چھوڑا ترکے میں اگر ہو اس (میت) کی اولاد۔

وَالْأَبَوٰیهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴿٧١﴾

پھر اگر نہ ہو اس (میت) کی اولاد اور اس کے وارث ہوں اس کے ماں باپ تو اس کی ماں کا ایک تہائی حصہ۔

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوَاهُ
فَلَإِمِّهِ التُّلُثُ ط

پھر اگر ہوں اس (میت) کے (بہن) بھائی تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ۔ بعد وصیت کے جو اس (میت) نے کی ہو یا قرض (کے ادا ہونے کے بعد)۔

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِإِمِّهِ
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ط

تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے۔ نہیں معلوم تم کو کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہارے نفع کے لحاظ سے۔ مقرر کئے ہوئے میں (یہ حصے) اللہ کی طرف سے۔ یقیناً اللہ ہے جاننے والا حکمت والا۔

أَبَاؤُكُمْ وَ أُمَّهَاتُكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

اور تمہارے لئے نصف اس کا جو چھوڑا ترکے میں تمہاری بیویوں نے اگر نہ ہو ان کی اولاد۔

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَتِ زَوَاجُكُمْ
إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ج

پھر اگر ہو انکی اولاد تو تمہارا حصہ چوتھائی ہے اسمیں سے جو چھوڑا ترکے میں انہوں نے بعد وصیت کے جو انہوں نے کی ہو یا قرض (کے ادا ہونے کے بعد)۔

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ
مِمَّا تَرَكَتِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ط

اور ان (بیویوں) کے لئے چوتھا حصہ اسمیں سے جو چھوڑا تر کے میں تم نے اگر نہ ہو تمہاری اولاد۔

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

پھر اگر ہو تمہاری اولاد تو ان (بیویوں) کا آٹھواں حصہ ہے اسمیں سے جو چھوڑا تر کے میں تم نے بعد وصیت کے جو تم نے کی ہو یا قرض (کے ادا ہونے کے بعد)۔

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

اور اگر ہو ایسا مرد جسکی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا یا ایسی عورت اور اس کا ہو ایک بھائی یا ایک بہن تو ہر ایک کا ہے ان میں سے چھٹا حصہ۔

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَ لِلَّهِ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

پھر اگر ہوں (بھائی بہن) ایک سے زیادہ تو وہ شریک ہوں گے ایک تہائی میں بعد وصیت کے جو اس نے کی ہو یا قرض (ادا ہونے کے بعد بشرطیکہ ایسی وصیت) نہ ہو ضرر رساں۔

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ

یہ فرمان ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ نہایت علم والا ہے بردبار ہے۔

وَصِيَّتِي مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

یہ حدود میں اللہ کی۔ اور جو کوئی اطاعت کرے
گا اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ داخل کرے
گا اس کو جنتوں میں بہ رہی ہیں جن کے نیچے
نہیں۔ رہیں گے ہمیشہ وہ ان میں۔ اور یہ
ہے کامیابی بہت بڑی۔

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے
رسول کی اور وہ تجاوز کرے گا اس کی حدود کی وہ
داخل کرے گا اس کو آگ میں رہے گا وہ ہمیشہ
اس میں۔ اور اس کو عذاب ہے ذلت کا۔

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ
حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا
وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

اور جو ارتکاب کریں بدکاری کا تمہاری عورتوں
میں سے تو شہادت لاؤ ان پر چار (لوگوں) کی
اپنوں میں سے۔ پھر اگر وہ شہادت دیں تو قید
رکھو ان کو گھروں میں یہاں تک کہ آجائے
ان کو موت یا پیدا کر دے اللہ ان کے لئے
کوئی سبیل۔

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ
فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنكُمْ
فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي
الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ
يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

اور جو دو مرد ارتکاب کریں اس (بدکاری) کا تم
میں سے تو ایذا دو ان دونوں کو۔ پھر اگر وہ توبہ کر

وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادْوُهُمَا
فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا

عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا
رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

لیں اور اصلاح کر لیں تو پیچھا چھوڑ دو ان کا۔
بیشک اللہ ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ
قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾

در حقیقت قبولیت توبہ اللہ کے ذمے ہے
اُن لوگوں کے لئے جو کر بیٹھتے ہیں برائی
نادانی سے پھر توبہ کر لیتے ہیں جلد ہی سو یہ
لوگ میں توبہ قبول کرتا ہے اللہ جن کی۔ اور
ہے اللہ جاننے والا حکمت والا۔

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْإِسْلَامَ وَلَا الَّذِينَ
يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا
لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾

اور نہیں ہے قبولیت توبہ اُن لوگوں کے لئے
جو کرتے رہیں برے کام۔ یہاں تک کہ جب
آموجود ہوں ان میں سے کسی کی موت تو کہنے لگے
یقیناً میں توبہ کرتا ہوں اب اور نہ ان لوگوں کی جو
مرتے ہیں جبکہ وہ ہیں کافر۔ یہی لوگ ہیں تیار
کر رکھا ہے ہم نے جہنم کے لئے عذاب دردناک۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ
أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے نہیں جائز
تمہارے لئے کہ وارث بن جاؤ عورتوں کے
زبردستی۔ اور نہ روکے رکھو انہیں کہ لے لو کچھ
اس میں سے جو دیا ہے تم نے ان کو مگر یہ کہ

مرتب ہوں وہ بدکاری کی کھلے طور پر۔ اور
گذر بسر کرو ان کے ساتھ اچھی طرح سے۔ پھر
اگر ناپسند ہوں وہ تم کو تو ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو
کسی چیز کو اور پیدا کر دے اللہ اس میں خیر کثیر۔

مُبَيِّنَةٍ وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ يُجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

اور اگر ارادہ کرو تم بدلنے کا ایک بیوی کی جگہ
دوسری بیوی۔ اور دے چکے ہو تم ان میں
سے ایک کو ڈھیر سا مال تو نہ واپس لو اس میں
سے کچھ بھی۔ تو کیا واپس لو گے تم اسے بہتان
لگا کر اور گناہ کر کے کھلا۔

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ
زَوْجٍ وَ أَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونََّهُ
بُهْتَانًا وَ إِثْمًا مُّبِينًا

اور کیونکر واپس لے سکتے ہو تم اسے جبکہ تم
صحبت کر چکے ہو ایک دوسرے کے ساتھ اور
وہ لے چکی ہیں تم سے عہد پختہ۔

وَ كَيْفَ تَأْخُذُونََّهُ وَ قَدْ أَفْضَى
بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ
مِيثَاقًا غَلِيظًا

اور نہ نکاح کرو تم ان سے نکاح کر چکے ہوں
تمہارے باپ جن عورتوں سے مگر جو ہو چکا
پہلے۔ یقیناً یہ تھی کھلی بے حیائی اور قابل
نفرت بات۔ اور بہت بری راہ۔

وَ لَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَ مَقْتًا وَ سَاءَ سَبِيلًا

حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور
 تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری
 پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بیٹیاں بھائی
 کی اور بیٹیاں بہن کی اور وہ مائیں جنہوں نے تم
 کو دودھ پلایا ہو اور تمہاری بہنیں دودھ شریک
 اور مائیں تمہاری بیویوں کی اور تمہاری وہ لڑکیاں
 جو تمہارے گھروں میں ہیں ان عورتوں سے وہ
 کہ تم غلوت کر چکے ہو تم جن کے ساتھ۔ پھر
 اگر نہ غلوت کی ہو تم نے ان کے ساتھ تو
 نہیں کچھ گناہ تم پر۔ اور عورتیں تمہارے ان
 بیٹوں کی جو تمہاری پشت میں سے ہیں۔ اور یہ
 کہ اکٹھا رکھو دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا۔ بے
 شک اللہ ہے معاف فرمانے والا بہت رحم
 کرنے والا۔

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
 وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
 الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ
 الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ
 الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنَ
 نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
 تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
 مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

اور شوہر والی عورتیں (حرام ہیں) مگر وہ جو قبضے
 میں آجائیں تمہاری باندیوں کے طور پر۔ لکھ دیا
 ہے اللہ نے (یہ حکم) تم پر۔ اور حلال کر دی
 گئی ہیں تمہارے لئے وہ جو علاوہ ہیں ان

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا ج
 مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ

کے کہ چاہو تم اپنے مال خرچ کر کے نکاح میں لانے کو نہ کہ شہوت پرستی کو۔ پھر جو لطف اندوز ہوئے تم اس (نکاح) سے ان عورتوں سے تو ادا کر دو انہیں ان کا مہر جو مقرر کیا ہو۔ اور نہیں کچھ گناہ تم پر اس میں کہ باہم رضامند ہو جاؤ تم جس پر بعد مقرر کرنے کے۔ بیشک اللہ ہے سب کچھ جاننے والا حکمت والا۔

تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

اور جو نہ رکھے تم میں سے مقدور کہ نکاح کر سکے آزاد عورتوں سے ایمان والی تو وہ جو ملک ہوں تمہارے ہاتھ کی باندیوں میں سے ایمان والی۔ اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو۔ پھر نکاح کر لو ان کے ساتھ اجازت سے ان کے مالکوں کی۔ اور ادا کر دو ان کو ان کے مہر دستور کے مطابق کہ ہوں نکاح میں آنے والیاں نہ کہ بدکاری کرنے والیاں اور نہ آشنائی کرنے والیاں چوری چھپے۔ پس جب وہ آجائیں نکاح میں پھر اگر ارتکاب کر بیٹھیں بدکاری کا تو ان

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَسْخِذَاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنْتُمْ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ

کے لئے ہے نصف اس کی جو آزاد عورتوں پر سزا میں ہے۔ یہ (باندی کے ساتھ نکاح کی اجازت) اس کے لئے ہے جسے ڈر ہو بدکاری کر بیٹھنے کا تم میں۔ اور اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے لئے۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٦﴾

چاہتا ہے اللہ کہ کھول کر بیان فرمائے تمہارے لئے (احکام) اور چلائے تم کو طریقوں پر ان لوگوں کے جو تھے تم سے پہلے۔ اور توبہ قبول کرے تمہاری۔ اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾

اور اللہ چاہتا ہے کہ توبہ قبول کرے تمہاری۔ اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات نفس کی کہ دور جا پڑو تم بھٹک کر دور بہت زیادہ۔

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾

چاہتا ہے اللہ کہ بوجھ ہلکا کرے تم پر سے۔ اور پیدا کیا گیا ہے انسان طبعاً کمزور۔

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے نہ کھاؤ ایک دوسرے کے اموال باہم ناجائز طریقے سے مگر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونُ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ط وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٦﴾

یہ کہ ہو تجارت رضامندی سے آپس کی۔ اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو۔ بیشک اللہ ہے تم پر مہربان۔

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٢٧﴾

اور جو کرے گا ایسا زیادتی اور ظلم سے تو عنقریب ہم داخل کریں گے اس کو جہنم میں۔ اور ہے یہ اللہ کے لیے بہت آسان۔

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٢٨﴾

اگر بچتے رہو گے تم بڑے گناہوں سے وہ منع کیا گیا ہے تم کو جن سے تو درگزر کریں گے ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں اور داخل کریں گے ہم تمہیں مکانوں میں عزت کے۔

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٩﴾

اور مت تمنا کرو اس کی فضیلت دی ہے اللہ نے جس چیز میں تم میں سے بعض کو بعض پر۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اسمیں سے جو کمایا انہوں نے۔ اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اسمیں سے جو کمایا انہوں نے۔ اور مانگتے رہو اللہ سے اس کے فضل سے۔ بیشک اللہ ہے ہر چیز کو خوب جاننے والا۔

اور ہر ایک کے لیے مقرر کر دیئے ہیں ہم نے وارث اس میں سے جو ترکے میں چھوڑیں والدین اور قریبی رشتہ دار۔ اور جن لوگوں سے ہو چکا ہے تمہارا عہد تو دو ان کو ان کا حصہ۔ بیشک اللہ ہے ہر چیز پر نگران۔

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

مرد نگہبان ہیں عورتوں پر اس بنا پر کہ فضیلت دی ہے اللہ نے ان میں بعض کو بعض پر اور اس بنا پر کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال میں سے۔ تو جو نیک عورتیں ہیں اطاعت شعار ہیں حفاظت کرنیوالی ہیں پیٹھ پیچھے اس کی جسے محفوظ کیا اللہ نے۔ اور وہ عورتیں اندیشہ ہو تمہیں جن کی بد خوئی کا تو نصیحت کرو ان کو اور تنہا چھوڑ دو ان کو بستروں میں اور زدو کوب کرو انکو۔ پھر اگر وہ کہنا مان لیں تمہارا تو مت تلاش کرو انپر (الزام دینے کی) کوئی راہ۔ بیشک اللہ ہے بہت بالاتر بہت بڑا۔

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظْنَ لِلسَّيْرِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَ الَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

اور اگر اندیشہ ہو تم کو ناچاقی کا ان (میاں بیوی) کے درمیان تو مقرر کرو ایک منصف مرد کے

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِّنْ

خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے
خاندان میں سے۔ اگر وہ چاہیں گے اصلاح تو
موافقت پیدا کر دے گا اللہ ان میں۔ بیشک
اللہ ہے سب جاننے والا سب سے باخبر۔

أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَاحًا يُؤَفِّقُ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنِ اللّٰهُ كَانَ عَلِيمًا
خَبِيرًا ﴿٢٥﴾

اور عبادت کرو اللہ کی اور نہ شریک بناؤ
اس کے ساتھ کسی چیز کو۔ اور والدین کے ساتھ
حسن سلوک کرو اور قرابت والوں اور یتیموں اور
ناداروں اور رشتہ دار ہمسائے اور اجنبی
ہمسائے اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر اور وہ
جو تمہاری ملک (کنیز غلام) ہیں۔ (سب
کے ساتھ حسن سلوک کرو)۔ بیشک اللہ نہیں
پسند کرتا اس کو جو ہو تکبر کرنے والا بڑائی
مارنے والا۔

وَأَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجُنُبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ إِنِ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ
فُحْتَالًا فَخُورًا ﴿٢٦﴾

وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور ترغیب دیتے
میں لوگوں کو بخل کی اور چھپا کر رکھتے ہیں اس کو
جو عطا فرمایا ہے انہیں اللہ نے اپنے فضل
سے۔ اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے
لئے عذاب ذلت کا۔

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ
بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَآعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٢٧﴾

اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال دکھانے کو لوگوں کے اور نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ یوم آخرت پر۔ اور وہ ہو جائے شیطان جس کا ساتھی تو بہت برا ہے ایسا ساتھی۔

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾

اور کیا (مشکل آپڑتی) ان پر اگر ایمان لے آتے وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر اور خرچ کرتے اس میں سے جو رزق دیا ہے انکو اللہ نے۔ اور ہے اللہ انکے بارے میں خوب جاننے والا۔

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٣٩﴾

یقیناً اللہ نہیں ظلم کرتا برابر ایک ذرے کے۔ اور اگر ہو کوئی نیکی تو کر دے گا وہ اس کو کھنگنا۔ اور بخشنے گا اپنے پاس سے اجر عظیم۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

پھر کیا کیفیت ہوگی جب لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اور لائیں گے ہم تم کو (اے محمد ﷺ) ان لوگوں پر بطور گواہ۔

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾

اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا

کیا اور نافرمانی کی رسول کی کہ کاش برابر کر دی جائے ان پر زمین۔ اور نہیں چھپا سکیں گے وہ اللہ سے کوئی بات۔

الرَّسُولَ لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ
وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے نہ قریب جاؤ نماز کے جبکہ تم ہونے کی حالت میں یہاں تک کہ معلوم ہو تمہیں کہ کیا تم کہہ رہے ہو۔ اور نہ جنابت کی حالت میں (نماز کے قریب جاؤ) مگر یہ کہ گذر رہے ہو سفر کے راستے میں یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اور اگر ہو تم بیمار یا سفر میں یا آیا ہو کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے یا مقاربت کی ہو تم نے عورتوں سے پھر نہ میرا آنے تمہیں پانی تو تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ سو مسح کر لو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ بیشک اللہ ہے معاف کرنے والا بخشنے والا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا
الصَّلَاةَ وَ أَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا
إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ
جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ
لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفْوًا غَفُورًا

کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنکو دیا گیا تھا کچھ حصہ کتاب میں سے خریدتے ہیں وہ گمراہی اور چاہتے ہیں کہ بھٹک جاؤ تم راستے سے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا
مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَاةَ
وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ

اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ اور کافی ہے اللہ کارساز۔ اور کافی ہے اللہ مددگار۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا^ق وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿٤٦﴾

ان لوگوں میں سے جو یہودی ہو گئے ہٹا دیتے ہیں الفاظ کو ان کے مقامات سے اور کہتے ہیں کہ سن لیا ہم نے اور نہیں مانا اور سنو نہ سنو نے جاؤ اور (کہتے ہیں) راعنا مروڑ کر اپنی زبانوں کو اور طعنہ کی نیت سے دین میں۔ اور اگر وہ یوں کہتے کہ سن لیا ہم نے اور مان لیا ہم نے اور سنو اور نظر کرو ہم پر تو یہ ہوتا بہتر ان کے حق میں اور زیادہ درست بھی۔ لیکن لعنت کر رکھی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب تو نہیں وہ ایمان لاتے مگر تھوڑے۔

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَ يَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَ أَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِيَّا^ط بِالسِّنْتِهِمْ وَ طَعْنَا فِي الدِّينِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَ أَسْمَعُ وَ أَنْظَرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَ أَقْوَمَ وَ لَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾

اے وہ لوگوں جنہیں دی گئی تھی کتاب ایمان لے آؤ۔ اس (کتاب) پر جو نازل کی ہے ہم نے تصدیق کرنے والی ہے اس (کتاب) کی جو تمہارے پاس ہے۔ اس سے پہلے کہ مسخ

يَأْتِيهَا الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا

کر دیں ہم چہروں کو پھر پھیر دیں ہم انکو ان کی پیٹھوں کی طرف یا لعنت کریں ہم ان پر اس طرح جیسے لعنت کی تھی ہم نے اصحاب سبت پر۔ اور ہے حکم اللہ کا نافذ ہو کر رہنے والا۔

عَلَىٰ أَذْبَارِهَا أَوْ نَلَعْنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ
أَصْحَابَ السَّبْتِ وَ كَانَ أَمْرُ اللَّهِ
مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾

یقیناً اللہ نہیں معاف کریگا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ اور وہ معاف کر دیتا ہے اس کے سوا جس کے لئے وہ چاہے۔ اور جس نے شریک مقرر کیا اللہ کے ساتھ تو یقیناً اس نے بہتان باندھا بڑے گناہ کا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ
إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو پاکیزہ قرار دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ نہیں بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسکو چاہتا ہے۔ اور نہیں ان پر ظلم ہو گا دھاگے برابر بھی۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ
أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن
يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾

دیکھو کیسا بہتان باندھتے ہیں یہ اللہ پر جھوٹ کا۔ اور کافی ہے یہی کھلا گناہ۔

أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ وَ كَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٠﴾

کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جسکو دیا گیا ہے کچھ حصہ کتاب میں سے کہ ایمان رکھتے ہیں وہ بتوں پر اور شیاطین پر اور کہتے ہیں ان

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ
الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ

و يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ
أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾

لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا کہ یہ
لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان لوگوں کی
نسبت جو ایمان لانے راستے کے اعتبار سے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَنْ
يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾

یہی ہیں وہ لوگ لعنت کی ہے جن پر اللہ نے
۔ اور جس پر لعنت کرے اللہ تو ہرگز نہیں تم
پاؤ گے اس کا کوئی مددگار۔

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا
لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾

کیا انکے پاس ہے کچھ حصہ بادشاہی کا۔ اس
صورت میں تو نہ دیں یہ لوگوں کو ذرہ برابر بھی۔

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ
اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ
إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ
وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

یا حسد کرتے ہیں یہ لوگوں سے اس پر جو دے
رکھا ہے انہیں اللہ نے اپنے فضل سے۔ تو
بیشک عنایت فرمائی تھی ہم نے آل ابراہیم
کو کتاب اور حکمت اور بخشی تھی ہم نے انکو
سلطنت عظیم۔

فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهِ ۖ وَمِنْهُمْ
مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ
سَعِيرًا ﴿٥٥﴾

پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اس پر اور ان
میں سے کوئی رکا رہا اس سے۔ اور کافی ہے
(ایسوں کے لئے) دوزخ کی بھڑکتی ہوئی
آگ۔

یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں سے
 عنقریب داخل کریں گے ہم ان کو آگ میں -
 جب جل جائیں گی ان کی کھالیں تو بدل دیں
 گے ہم انکو دوسری کھالوں سے تاکہ چکھتے
 رہیں وہ عذاب - بیشک اللہ ہے غالب
 حکمت والا -

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ
 نُصَلِّيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ
 جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا
 لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک
 اعمال عنقریب داخل کریں گے ہم ان کو جنتوں
 میں بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں گے
 وہ ان میں ہمیشہ - ان کے لئے وہاں ہیں
 بیویاں پاکیزہ - اور داخل کریں گے ہم ان کو
 سائے میں جو گھنے ہیں -

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ
 فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ
 ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿٥٧﴾

یقیناً اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ حوالے کر دیا کرو
 امانتیں ان کے مالکوں کو - اور جب فیصلہ
 کرنے لگو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کیا کرو
 انصاف کے ساتھ - یقیناً اللہ بہت خوب ہے
 نصیحت کرتا ہے وہ تمہیں جسکی - یقیناً اللہ ہے
 سننے والا دیکھنے والا -

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا
 الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
 بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحب حکومت کی جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر تنازع واقع ہو تم میں کسی معاملے میں تو رجوع کرو اسے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ یہ بہتر اور بہت اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا ہے تم سے پہلے۔ چاہتے ہیں وہ کہ مقدمہ فیصلے کے لئے لیجانیں طاغوت کی طرف حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ انکار کریں وہ اس کا۔ اور چاہتا ہے شیطان کہ انکو بہکا دے گمراہی میں بہت دور کی۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ
أَنَّهُمْ آمَنُوا بِهِمْ آ نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا
أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ
يَتَّخِذُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ
أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا
بَعِيدًا ﴿٦١﴾

اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس کی طرف جو نازل فرمایا ہے اللہ نے اور رسول کی

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتِ الْمُنْفِقِينَ

طرف تو دیکھتے ہو تم منافقوں کو کہ رکے جاتے
میں تم سے گریز کرتے ہوئے۔

يُصِدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾

پھر کیسی (ندامت) جب واقع ہوتی ہے ان
پر کوئی مصیبت بسبب اس کے جو بھیجا ہوتا
ہے ان کے ہاتھوں نے۔ پھر آتے ہیں
تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی
نہیں تھا ہمارا مقصود مگر بھلائی اور مصالحت۔

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ مِّمَّا
قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ جَاءُوكَ
يَخْلِفُونَ^{صَلَّى} بِاللَّهِ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا
إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾

یہ وہ لوگ ہیں کہ جانتا ہے اللہ اس کو جو انکے
دلوں میں ہے۔ تو درگزر کرو ان سے اور انہیں
نصیحت کرو اور کہو ان سے ان کے حق میں
ایسی بات جو ہودل میں اثر کر نیوالی۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي
قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ
وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لئے
کہ اطاعت کی جائے اس کی حکم سے اللہ کے
۔ اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھے تھے اپنی
جانوں پر آتے تمہارے پاس پھر بخشش مانگتے
اللہ سے اور بخشش مانگتے انکے لئے رسول۔ یقیناً
پاتے اللہ کو معاف کرنے والا رحم کرنے والا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ
بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا
أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ
تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾

پس نہیں۔ قسم ہے تیرے رب کی نہیں یہ ہونگے مومن جب تک نہ منصف بنائیں تمہیں اس میں جو تنازع اٹھے ان کے درمیان۔ پھر نہ پائیں اپنے دلوں میں تنگی اس سے جو فیصلہ تم کو دو اور تسلیم کر لیں خوشی سے۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

اور اگر ہم لکھ دیتے ان پر کہ قتل کر ڈالو اپنے آپ کو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے تو نہ کرتے یہ ایسا مگر تھوڑے ہی ان میں سے۔ اور اگر یہ کہ وہ کاربند ہوتے اس پر نصیحت جاتی ہے انکو جسکی تو ہوتا زیادہ بہتر ان کے حق میں اور زیادہ ثابت قدمی کا ذریعہ۔

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ ائْخِرْجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿٦٦﴾

اور اس صورت میں ہم یقیناً عطا فرماتے ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم۔

وَإِذَا لَأْتَيْنَهُمْ مِّنْ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾

اور ضرور ہدایت دیتے ہم انکو صراط مستقیم پر۔

وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾

اور جس نے اطاعت کی اللہ اور رسول کی۔ تو یہی لوگ ہیں جو ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ

انعام کیا ہے اللہ نے جن پر۔ انبیاء میں سے
اور صدیقین اور شہداء اور صالحین اور بہت ہی
عمدہ ہیں یہ لوگ بطور رفیق۔

النَّبِيِّنَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٦﴾

یہ ہے فضل اللہ کی طرف سے۔ اور کافی ہے
اللہ جاننے والا۔

ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے لے لو اپنے ہمتیار
پھر نکلو جدا جدا ہو کر یا نکلو سب اکٹھے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرًا كُمْ فَاغْرُؤْا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا ﴿٧١﴾

اور بیشک تم میں کوئی وہ ہے جو ضرور دیر لگاتا
ہے۔ پھر اگر تم پر پڑ جائے کوئی مصیبت تو کہتا
ہے بیشک مہربانی کی اللہ نے مجھ پر کہ
اُس وقت نہ تھا میں ان کے ساتھ موجود۔

وَ إِن مِّنكُمْ مَّن لَّيَبْطِئَنَّ فَإِن أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالِ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٢﴾

اور اگر پہنچتا ہے تم پر فضل اللہ کی طرف سے
تو ضرور اس طرح سے کہتا ہے گویا کہ نہ تھی
تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی کہ
کاش ہوتا میں ان کے ساتھ تو حاصل کر لیتا
کامیابی بہت عظیم۔

وَ لَئِن أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ لَّيَلِيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَافُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾

سو چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو فروخت کر چکے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے عوض۔ اور جو شخص جنگ کرے اللہ کی راہ میں پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے تو عنقریب ہم دیں گے اس کو اجر بہت عظیم۔

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ
أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا
عَظِيمًا ﴿٧٤﴾

اور کیا ہوا ہے تم کو کہ نہیں لڑتے تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں (کی خاطر) جو دعائیں کیا کرتے ہیں ہمارے رب نکال تو ہمیں اس بستی سے ظالم میں جکے رہنے والے۔ اور بنا دے ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی حامی۔ اور بنا دے ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی مددگار۔

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ الَّذِينَ يَقُولُونَ
رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ
الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ
لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ
لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

وہ لوگ جو ایمان لائے لڑتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لڑتے ہیں وہ شیطان کی راہ میں۔ سو لڑو تم مددگاروں سے شیطان کے۔ بیشک چال شیطان کی

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
الطَّاغُوتِ فَاقْتُلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

ہے نہایت کمزور۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ
كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ
الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ
النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ
خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ
عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ
أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا
قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ
وَلَا تُظَلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو کہا گیا تھا
جن سے کہ روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو (جنگ
سے) اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ پھر
جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد تب ایک گروہ
ان میں سے ڈرتا ہے لوگوں سے جیسے ڈرا
کرتے ہیں اللہ سے یا اس سے بھی زیادہ ڈر۔
اور کہنے لگے وہ اے ہمارے رب کیوں فرض
کر دیا تو نے ہم پر جہاد۔ کیوں نہ مہلت دی تو
نے ہم کو تھوڑی مدت اور۔ کہہ دو کہ فائدہ دنیا
کا بہت تھوڑا ہے۔ اور آخرت بہت بہتر ہے
اس کے لئے جو تقویٰ اختیار کرے اور نہیں
ظلم کیا جائے گا تم پر دھاگے برابر بھی۔

أَيُّنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ
كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ
حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ

جہاں کہیں ہو گے تم آکر رہے گی تمہیں موت
اور خواہ تم ہو مضبوط قلعوں میں۔ اور اگر پہنچتا
ہے انہیں کوئی فائدہ تو کہتے ہیں یہ ہے اللہ کی
طرف سے۔ اور اگر پہنچتی ہے ان پر کوئی
مصیبت تو کہتے ہیں یہ ہے (اے پیغمبر)

تمہاری وجہ سے۔ کہہ دو کہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ نہیں سمجھ سکتے کوئی بات۔

مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ
يَفْقَهُونَ حَدِيثَنَا

جو پہنچتی ہے تجھ کو کوئی بھلائی تو ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اور جو پہنچتی ہے تجھ کو کوئی برائی تو ہے وہ تیرے نفس کی طرف سے۔ اور ہم نے بھیجا ہے تمہیں لوگوں کے لئے رسول بنا کر۔ اور کافی ہے اللہ اس پر گواہ۔

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ
وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ
نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَا لِلنَّاسِ رَسُولًا
وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

جس نے اطاعت کی رسول کی تو بیشک اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ اور جس نے روگردانی کی تو نہیں بھیجا ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
حَفِظًا

اور کہتے ہیں ہم فرمانبردار ہیں۔ پھر جب جاتے ہیں تمہارے پاس سے تو رات کو مشورے کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے خلاف اس کے جو تم کہتے ہو۔ اور اللہ لکھ لیتا ہے جو یہ رات کو مشورے کرتے ہیں۔ سو منہ پھیر لو ان سے اور توکل کرو اللہ پر۔ اور کافی ہے اللہ کارساز۔

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ
عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ
الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا
يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ

عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨١﴾

تو کیا نہیں یہ غور کرتے قرآن میں۔ اور اگر یہ ہوتا کسی کی طرف سے سوائے اللہ کے تو ضرور یہ پاتے اس میں اختلاف بہت زیادہ۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

اور جب پہنچتی ہے ان کے پاس کوئی خبر امن کی یا خوف کی تو مشہور کر دیتے ہیں اسے۔ اور اگر پہنچاتے اسکو رسول کے پاس اور ذمہ داروں کے پاس انکے اپنوں میں سے تو اسکو جان لیتے وہ جو تحقیق کرنے والے ہیں اس کی ان میں سے۔ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت تو ضرور پیروی کرنے لگتے تم شیطان کی سوائے چند ایک کے۔

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

سولو تم اللہ کی راہ میں۔ نہیں ہو تم ذمے دار مگر اپنی ذات کے۔ اور ترغیب دو مومنوں کو۔ توقع ہے اللہ سے کہ وہ روک دے جنگ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ اور اللہ شدید ترین جنگ کرنے والا ہے اور بہت سخت

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ

ہے سزا دینے کے لحاظ سے۔

جو کرے گا سفارش نیک کام کی تو ہوگا اس کے لئے حصہ اس میں سے۔ اور جو کرے گا سفارش برائی کی تو ہوگا اس کے لئے بوجھ اس میں سے۔ اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ٨٥

اور جب دعا دی جائے تم کو سلامتی کی دعا تو دعا دو تم بہتر اس سے یا لوٹا دو وہی۔ بیشک اللہ ہے ہر چیز پر حساب لینے والا۔

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ٨٦

اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسکے۔ ضرور جمع کرے گا وہ تم سب کو قیامت کے دن کہ نہیں ہے کوئی شک جس میں اور کون ہوگا زیادہ سچا اللہ سے بات میں۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ٨٧

پھر کیا ہو گیا ہے تمہیں منافقوں کے بارے میں کہ دو گروہ بن گئے ہو۔ حالانکہ اللہ نے اوندھا کر دیا ہے ان کو بسبب اسکے جو انہوں نے کمایا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت دو اسے جسکو

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُتَفِقِينَ فِتْنَيْنِ وَاللَّهُ أَرَّ كَسْبُهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتْرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ

گمراہ کر دیا اللہ نے۔ اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے اسکے لئے کوئی راستہ۔

وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

چاہتے ہیں وہ کاش تم کافر ہو جاؤ جس طرح وہ کافر ہو گئے ہیں تو تم ہو جاؤ سب برابر۔ تو نہ بنانا انہیں سے کسی کو دوست جب تک نہ ہجرت کریں وہ اللہ کی راہ میں۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو انکو پکڑ لو اور قتل کر دو انہیں جہاں پاؤ تم انکو۔ اور نہ بناؤ انہیں سے کسی کو رفیق اور نہ مددگار۔

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ^ط أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ^ص وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ^ل وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ^و وِلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

مگر وہ لوگ جو جا ملے ہوں ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا عہد ہو یا آجائیں تمہارے پاس کہ تنگ آ رہے ہوں ان کے دل کہ لڑیں تم سے یا لڑیں اپنی قوم کے ساتھ۔ اور اگر چاہتا اللہ تو غالب کر دیتا ان کو تم پر تو وہ تم سے ضرور لڑتے۔ تو اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں پھر نہ تم سے لڑیں اور بھیج دیں تمہاری طرف صلح کا پیغام۔ تو نہیں مقرر کیا اللہ نے تمہارے لئے ان پر (زبردستی کرنے

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ^ط أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ^ج وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ^ل فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَ أَلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ

عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿١٠﴾

کا کوئی جواز۔

سَتَجِدُونَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُونَ اَنْ
يَاْمُرُوْكُمْ وَيَاْمُرُوْا قَوْمَهُمْ
بِكُلِّ مَرْدُوۡا
اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوۡا فِيْهَا
فَاِنْ لَّمْ
يَعْتَرِلُوْكُمْ وَ يُلْقُوْا اِلَيْكُمْ
السَّلَامَ
وَيَكْفُوْا اَيْدِيَهُمْ
فَاْخُذُوْهُمْ
وَاقْتُلُوْهُمْ
حَيْثُ
تَقِفْتُمُوْهُمْ
وَ اَوْلِيَٰكُمْ
جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ
سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١١﴾

پاؤ گے تم کچھ دوسرے لوگ جو چاہتے ہیں کہ
امن میں رہیں تم سے اور امن میں رہیں اپنی
قوم سے بھی۔ جب کبھی بلائے جاتے ہیں
فتنہ انگیزی کو تو پلٹ پڑتے ہیں اس میں۔ تو
اگر نہ وہ کنارہ کشی کریں تم سے اور (نہ) بھیجیں
تمہاری طرف صلح کا پیغام اور (نہ) روکیں
اپنے ہاتھوں کو تو ان کو پکڑ لو اور قتل کر دو انہیں
جہاں پاؤ تم انہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ
دے دیا ہے ہم نے تمہیں ان پر اختیار کھلے
طور پر۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا
اِلَّا خَطَاً

اور نہیں ہے کسی مومن کو (شایاں) کہ وہ قتل
کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے۔

وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّ رِيۡةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى
اَهْلِيۡهِ اِلَّا اَنْ يَّصَدَّقُوۡا

اور جس نے قتل کر دیا کسی مومن کو غلطی سے تو
آزاد کرے ایک غلام مومن اور خون بہا ادا
کرے اسکے وارثوں کو مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔

فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَ هُوَ

پھر اگر ہو وہ اس قوم سے جو دشمن ہے تمہاری

مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

اور وہ مومن ہو تو آزاد کرے ایک غلام مومن۔

وَ إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَ
تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

اور اگر ہو وہ اس قوم سے کہ تمہارے اور ان
کے درمیان صلح کا عہد ہو تو خون بہا ادا کرے
اسکے وارثوں کو اور آزاد کرے ایک غلام مومن۔

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَ كَانَ
اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢﴾

پھر جس کو نہ یہ میسر ہو تو روزے رکھے دو مہینے
کے متواتر۔ توبہ کے لئے اللہ کی طرف سے۔
اور ہے اللہ سب جاننے والا بڑی حکمت والا۔

وَ مَنْ يَقْتُلْ مُّؤْمِنًا مُّتَعَمِدًا
فَجَزَاءُهَا جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ
لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿١٣﴾

اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو قصداً تو
اسکی سزا دوزخ ہے۔ رہے گا وہ ہمیشہ جس
میں اور غضب ہوگا اللہ کا اس پر اور اس کی
لعنت اور تیار کر رکھا ہے اس نے اس کے
لئے عذاب بہت بڑا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لَا تَقُولُوا لِمَنْ
آلَفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُّؤْمِنًا
تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے جب تم نکلا کرو
اللہ کی راہ میں تو تحقیق کر لیا کرو اور نہ کہو اس
سے جو کرے تم کو سلام کہ نہیں ہے تو مومن
۔ حاصل کرنا چاہتے ہو تم فائدہ دنیا کی زندگی

کا۔ سو اللہ کے پاس میں علمیتیں کثرت سے۔ ایسے ہی تھے تم بھی اس سے پہلے۔ پھر احسان کیا اللہ نے تم پر۔ تو تحقیق کر لیا کرو۔ بیشک اللہ ہے اس سے جو تم کرتے ہو باخبر۔

اللَّهُ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾

نہیں ہو سکتے برابر گھروں میں بیٹھے مومن بغیر عذر والے اور جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ فضیلت بخشی ہے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں۔ اور سب سے وعدہ کیا ہے اللہ نے بہت عمدہ۔ اور فضیلت بخشی ہے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم سے۔

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾

درجات ہیں اس کی طرف سے اور مغفرت اور رحمت ہے۔ اور ہے اللہ بخشنے والا بڑا مہربان۔

دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٩٦﴾

بیشک وہ لوگ کہ روح قبض کرنے لگتے ہیں

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي

جن کی فرشتے (اس حال میں کہ) وہ ظلم کر رہے تھے اپنی جانوں پر تو پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم ہم عاجز و ناتواں زمین میں۔ کہتے ہیں وہ کیا نہیں تھی زمین اللہ کی وسیع کہ تم ہجرت کر جاتے اس میں۔ سو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بری ہے وہ جگہ لوٹنے کی۔

أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

مگر وہ عاجز و ناتواں مردوں میں اور عورتیں اور بچے کہ نہیں کر سکتے ہیں وہ کوئی تدبیر اور نہیں پاتے ہیں وہ کوئی راستہ۔

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

سو یہ لوگ قریب ہے کہ اللہ معاف کر دے انکو۔ اور ہے اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا۔

فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا

اور جو ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں پائے گا وہ زمین میں رہنے کی جگہ بہت سی اور کشائش۔ اور جو نکل جائے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ کی طرف اور اسکے رسول کی طرف پھر آ

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ

پکڑے اس کو موت۔ تو یقیناً واقع ہو گیا اسکا اجر
اللہ کے ذمے۔ اور ہے اللہ بخشنے والا بہت
مہربان۔

وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا

اور جب سفر کو جاؤ تم زمین میں تو نہیں تم
پر کچھ گناہ کہ قصر کرو تم نماز میں۔ بشرطیکہ تم
کو خوف ہو کہ ستائیں گے تم کو وہ لوگ
جنہوں نے کفر کیا۔ بیشک کفار ہیں تمہارے
دشمن کھلے طور پر۔

وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ
الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكٰفِرِينَ كَانُوا
لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

اور (اے رسول) جب تم موجود ہو ان کے
درمیان پھر پڑھانے لگو ان کو نماز تو چاہیے کہ
کھڑا ہو ایک گروہ ان میں سے تمہارے ساتھ
اور لئے رہیں وہ اپنے ہتھیار۔

وَ إِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ
الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ
مَعَكَ وَ لِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ

پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو چاہیے کہ ہو جائیں
تمہارے پیچھے۔ اور آجائے گروہ دوسرا نہیں
پڑھی جنہوں نے نماز پھر وہ ادا کریں نماز
تمہارے ساتھ اور چاہیے کہ لئے رہیں وہ اپنا
بچاؤ اور اپنے ہتھیار۔

فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ
وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى
لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ
وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ

چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش
غافل ہو جاؤ تم اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے
سامان سے تو کر ڈالیں وہ تم پر حملہ یکایک۔

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ
أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ
عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً

اور نہیں کچھ گناہ تم پر اگر ہو تم کو تکلیف
بارش کے سبب یا ہو تم بیمار کہ اتار رکھو
اپنے ہتھیار۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ
أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى
أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ

اور کر رکھو اپنا بچاؤ۔ یقیناً اللہ نے تیار کر رکھا
ہے کافروں کیلئے عذاب ذلت کا۔

وَ خُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

پھر جب تم ادا کر چکو نماز تو ذکر کرو اللہ
کا کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے۔
پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو قائم کرو نماز۔
بیشک نماز ہے مومنوں پر فرض اوقات مقررہ
کے ساتھ۔

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ
قِيَامًا وَ قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا
أَطْمَأَنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ
الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
مَوْقُوتًا

اور نہ کمزوری دکھاؤ تم تعاقب کرنے میں
(کافر) قوم کے۔ اگر ہوتے ہو تم بے آرام تو

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ
تَكُونُوا تَأْمُونًا فَإِنَّهُمْ يَأْمُونُ كَمَا

یقیناً وہ میں بے آرام جس طرح ہو تم بے آرام
- اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے ایسی جو نہیں
امید رکھتے وہ - اور ہے اللہ سب جاننے والا
بڑی حکمت والا -

تَأْمُونَ وَ تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا
يَرْجُونَ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿١٤﴾

بیشک ہم نے نازل کی تمہاری طرف کتاب حق
کے ساتھ تاکہ فیصلہ کرو تم لوگوں کے درمیان
اس کے مطابق جو سکھایا ہے تمہیں اللہ
نے - اور نہ ہونا خیانت کرنیوالوں کے طرفدار -

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ وَ
لَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٥﴾

اور بخش مانگتے رہو اللہ سے - بیشک اللہ
ہے بخشنے والا بڑا مہربان -

وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

اور نہ جھگڑا کرنا ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت
کرتے ہیں اپنے ہم جنسوں سے - بیشک اللہ
نہیں دوست رکھتا اسکو جو ہے دغا باز گناہگار -

وَ لَا يُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ
أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ
كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا ﴿١٧﴾

چھپتے ہیں وہ لوگوں سے اور نہیں چھپتے اللہ سے
حالانکہ وہ ہوتا ہے انکے ساتھ جب وہ مشورے
کیا کرتے ہیں راتوں کو اس (بات) کے نہیں

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لَا
يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذْ
يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ﴿١٨﴾

وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٨﴾

پسند کرتا وہ جس بات کو۔ اور ہے اللہ اس کا جو وہ کرتے ہیں احاطہ کئے ہوئے۔

هَآنَتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٩﴾

یہ ہو تم وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں۔ سو کون جھگڑا کرے گا اللہ کے ساتھ انکی طرف سے قیامت کے دن یا کون ہے جو بنے گا ان کا وکیل۔

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٠﴾

اور جو کوئی کر بیٹھے برا کام یا ظلم کر لے اپنے حق میں پھر بخش مانگے اللہ سے تو پائے گا اللہ کو بڑا بخشنے والا بڑا مہربان۔

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهِ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢١﴾

اور جو کوئی کھاتا ہے گناہ تو بس وہ کھاتا ہے اس کو اپنی جان پر۔ اور ہے اللہ جاننے والا حکمت والا۔

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٢﴾

اور جو کوئی کھاتا ہے قصور یا گناہ پھر الزام ڈال دے اس کو کسی بے گناہ پر تو یقیناً اٹھایا اس نے بوجھ بہتان اور کھلے گناہ کا۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ

اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اسکی مہربانی تو

قصہ کر چکی تھی ایک جماعت ان میں سے کہ
 بہکا دے تم کو۔ اور نہیں بہکا سکتے یہ مگر اپنے
 آپ کو اور نہ بگاڑ سکتے ہیں تمہارا کچھ بھی۔ اور
 نازل فرمائی ہے اللہ نے تم پر کتاب اور
 حکمت اور سکھایا ہے تمہیں وہ جو نہیں جانتے
 تھے تم اور ہے فضل اللہ کا تم پر بہت بڑا۔

لَهْمَتْ طَائِفَةً مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ
 وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ مَا
 يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ
 عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ
 مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ
 عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

نہیں ہے بھلائی اثر ان کے خفیہ مشوروں
 میں سوائے اس کے جو حکم دے صدقے کا یا
 نیک بات کا یا اصلاح کا لوگوں کے درمیان۔
 اور جو کوئی کرے گا ایسا تلاش میں اللہ کی رضا
 کی تو ہم اسکو دیں گے ثواب بہت بڑا۔

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ
 أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
 بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءً
 مَّرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا
 عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

اور جو مخالفت کرے رسول کی اس کے بعد
 جب کہ ظاہر ہو چکی ہے اس کے لئے ہدایت
 اور چلتا ہے وہ خلاف مومنوں کے رستے کے تو
 چلا دیں گے ہم اسکو اسپر جدھر وہ مرگیا اور داخل
 کریں گے ہم اسکو جہنم میں اور بری ہے وہ جگہ۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا
 تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
 الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَ نُصَلِّهِ
 جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

یقیناً اللہ نہیں بخشے گا کہ شریک بنایا جائے
اسکے ساتھ اور بخش دے گا جو کچھ ہے اسکے سوا
جس کے لئے چاہے گا۔ اور جس نے شریک
بنایا اللہ کے ساتھ تو بیشک بھٹک گیا وہ گمراہی
میں بہت دور کی۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

نہیں پکارتے یہ اُس کے سوائے کچھ دیویوں
کو۔ اور نہیں پکارتے یہ مگر شیطان سرکش کو۔

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنثًا
وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿١١٧﴾

لعنت کی ہے جسپر اللہ نے اور کہنے لگا میں
ضرور لوں گا تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ۔

لَعْنَةُ اللَّهِ وَقَالَ لَا اتَّخَذَنَّ
عِبَادِي نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾

اور ضرور گمراہ کرونگا میں ان کو اور ضرور دلاؤنگا
میں انہیں امیدیں اور ضرور حکم دوںگا میں ان کو
تو وہ ضرور چیرتے رہیں گے کان مویشیوں کے
اور ضرور حکم دوںگا میں ان کو تو یقیناً بگاڑتے رہیں
گے اللہ کی بنائی صورتوں کو۔ اور جس نے بنایا
شیطان کو دوست سوائے اللہ کے تو یقیناً رہا وہ
نقصان میں واضح طور پر۔

وَأَلْضَلُّهُمْ وَأَمَّنِيَّهُمْ
وَأَمَرَهُمْ فَلْيُبْتِئَنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ
وَأَمَرَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ
وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ
دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا
مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

وعدہ دیتا ہے وہ انکو اور امیدیں دلاتا ہے

يَعِدُهُمْ وَيُؤْمِنِيَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ

الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرْوًا ۝۱۲۰

انہیں اور نہیں وعدہ دیتا انہیں شیطان مگر دھوکے کا۔

أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُجِدُونَ عَنْهَا مَخِصًا ۝۱۲۱

یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ ہے جہنم اور نہیں پاسکیں گے وہ وہاں سے کوئی راہ فرار۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سُدَّ خَلْمُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۝۱۲۲

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال داخل کریں گے ہم انکو جنتوں میں جاری میں جن کے نیچے نہریں۔ رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ۔ وعدہ ہے اللہ کا سچا۔ اور کون ہے زیادہ سچا اللہ سے بات کا۔

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝۱۲۳

نہیں ہے تمہاری آرزوؤں پر (نجات) اور نہ آرزوؤں پر اہل کتاب کی۔ جو کوئی کرے گا برائی بدلہ دیا جائے گا اسے اسی طرح کا۔ اور نہ پائے گا اپنے لئے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۝۱۲۴

اور جو کرے گا نیک کام مرد ہو یا عورت جبکہ وہ ہو مؤمن تو ایسے لوگ داخل ہوں گے جنت میں اور نہیں ظلم کیا جائے گا انپر ذرہ برابر۔

اور کس کا بہتر ہے دین اس سے جس نے جھکا
 دیا اپنے چہرے کو اللہ کے لئے اور وہ ہو نیکو کار
 اور اتباع کی اس نے دین ابراہیم کی یکھو ہو کر۔
 اور بنایا تھا اللہ نے ابراہیم کو دوست۔

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ
 وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ
 مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ
 إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾

اور اللہ کا ہے جو ہے آسمانوں میں اور جو ہے
 زمین میں اور ہے اللہ ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے۔

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿١٢٦﴾

اور فتویٰ پوچھتے ہیں تم سے عورتوں کے بارے
 میں۔ کہہ دو اللہ اجازت دیتا ہے تم کو انکے
 معاملے میں۔ اور جو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تمہیں
 کتاب میں یتیم عورتوں کے بارے میں جنکو
 نہیں تم دیتے وہ جو مقرر کیا گیا ان کے لئے اور
 چاہتے ہو کہ انکے ساتھ نکاح کر لو اور بے سہارا
 بچوں کے بارے میں۔ اور یہ کہ قائم رہو تم
 یتیموں کے بارے میں انصاف پر اور جو کرو گے
 تم کوئی خیر تو بیشک اللہ ہے اس سے بانبر۔

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ
 يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي
 الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءِ الَّتِي لَا
 تُوْتُوهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ
 تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
 الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ
 بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

اور اگر کسی عورت کو ڈر ہو اپنے خاوند کی طرف

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا

سے زیادتی یا بے رخی کا تو نہیں کچھ گناہ ان دونوں پر کہ صلح کر لیں آپس میں کسی طریقے پر - اور صلح بہتر چیز ہے۔ اور مائل ہوتی ہیں طبعیتیں تو حرص پر۔ اور اگر تم حسن سلوک کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً اللہ ہے اس سے جو تم کرتے ہو پورے طرح باخبر۔

نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

اور ہرگز نہیں قدرت رکھتے تم کہ عدل کر سکو بیویوں کے درمیان خواہ چاہو۔ تو نہ (ایک پر) جھک پڑو بالکل جھکنا تو چھوڑ دو اس (دوسری) کو گویا لٹک رہی ہو۔ اور اگر مصالحت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو یقیناً اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

اور اگر دونوں جدا ہو جائیں تو غنی کر دے گا اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے۔ اور ہے اللہ کثائنات والا حکمت والا۔

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں۔ اور یقیناً تاکید کی تھی ہم نے ان لوگوں کو جن کو دی گئی تھی کتاب تم

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ

سے پہلے اور تم کو بھی کہ ڈرتے رہو اللہ سے۔
اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ
ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور
ہے اللہ بے نیاز لائق حمد و ثنا۔

أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ
لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١١٦﴾

اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو
کچھ ہے زمین میں اور کافی ہے اللہ کار ساز۔

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١١٦﴾

اگر وہ چاہے تو لے جائے تم کو اے لوگوں اور
لے آئے دوسروں کو۔ اور ہے اللہ اس پر
پوری طرح قادر۔

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ
وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى
ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿١١٧﴾

جو چاہتا ہو ثواب دنیا کا تو اللہ کے پاس ہے
ثواب دنیا اور آخرت کا۔ اور ہے اللہ سننے والا
دیکھنے والا۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ
اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ
اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١١٨﴾

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جاؤ قائم رہنے
والے انصاف پر۔ سچی گواہی دینے والے اللہ
کے لئے خواہ ہو یہ تمہارے اپنے خلاف یا
والدین کے یا رشتہ داروں کے۔ اگر کوئی ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ﴿١١٩﴾

امیر یا فقیر تو اللہ ہے زیادہ خیر خواہ ان دونوں کا۔ پس مت پیروی کرو تم خواہش نفس کی کہ نہ عدل کرو۔ اور اگر تم گھما پھرا کر بات کہو گے یا پہلو تہی کرو گے تو یقیناً اللہ ہے اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر۔

إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ایمان لاؤ اللہ پر اور اسکے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی ہے اس نے اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی اس نے اس سے پہلے۔ اور جو کوئی انکار کرے اللہ کا اور اسکے فرشتوں اور اسکی کتابوں اور اسکے رسولوں اور روز آخرت کا تو یقیناً وہ بھٹک گیا گمراہی میں بہت دور۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رَسُولِهِ ۖ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر بڑھتے گئے کفر میں۔ نہیں ہے یہ کہ اللہ بخشدے انکو اور نہ یہ کہ ہدایت دے انہیں سیدھے راستہ پر۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أزدَادُوا كُفْرًا ۚ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيُهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾

بشارت سنا دو منافقوں کو اس کی کہ ان کے لئے ہے عذاب دکھ دینے والا۔

بَشِيرِ الْمُنْفِقِينَ بَانَ لَهُمْ عَذَابًا
الِيمًا ﴿١٣٨﴾

وہ لوگ جو بناتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر۔ کیا ڈھونڈتے ہیں وہ ان کے پاس عزت۔ سو یقیناً عزت اللہ ہی کی ہے ساری کی ساری۔

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ
مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْبَتُونَ عِنْدَهُمْ
الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾

اور یقیناً نازل فرمایا ہے اس نے تم پر کتاب میں یہ کہ جب تم سنو آیات اللہ کی کہ انکار ہو رہا ہے ان کا اور ہنسی اڑائی جا رہی ہے انکی تو مت بیٹھو انکے ساتھ جب تک نہ مشغول ہو جائیں وہ کسی بات میں اس کے علاوہ۔ یقیناً تم تب تو انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بیشک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں اور کافروں کو دوزخ میں سب کو اکٹھا۔

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا
سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ
بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا
فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ
إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكَافِرِينَ
فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾

وہ لوگ جو منتظر رہتے ہیں تمہارے بارے میں پھر اگر ملے تم کو فتح اللہ کی طرف سے کہتے ہیں کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ۔ اور اگر ملے کافروں کو (فتح کا) حصہ۔ کہتے ہیں (انے) کیا

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ
مَعَكُمْ ۗ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ

نہیں تھے ہم غالب تم پر اور بچایا تم کو مومنوں سے۔ پس اللہ فیصلہ کر دے گا تم سب کے درمیان قیامت کے دن۔ اور ہرگز نہیں دے گا اللہ کافروں کو مومنوں پر (غلبے کی) راہ۔

قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَ
نَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ
لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

یقیناً منافقین دھوکا دیتے ہیں اللہ کو اور وہ ہے جس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو۔ اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لئے تو کھڑے ہوتے ہیں کاہلی سے۔ دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو اور نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر کم۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ
خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ
قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا
يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

ڈول رہے ہیں درمیان اس کے۔ نہ ان کی طرف اور نہ ان کی طرف۔ اور جس کو بھٹکانے اللہ تو ہرگز نہ تم پاؤ گے اس کے لئے راستہ۔

مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى
هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضِلِلِ
اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾

اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مت بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر۔ کیا تم چاہتے ہو کہ بنا دو اللہ کے لئے اپنے خلاف حجت صریح طور پر۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ
سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٤٤﴾

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ
مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

بیشک منافقین ہونگے سب سے نچلے درجے
میں دوزخ کے۔ اور ہرگز نہ پاؤگے تم ان کے
لئے کوئی مددگار۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا
بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ
مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَ سَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ
الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور
مضبوط پکڑ لیا اللہ (کی رسی) کو اور خالص کر لیا
اپنے دین کو اللہ کے لئے تو ایسے لوگ ساتھ
ہوں گے مومنوں کے۔ اور عنقریب دے گا
اللہ مومنوں کو اجر عظیم۔

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ
شَكَرْتُمْ وَ آمَنْتُمْ وَ كَانَ اللَّهُ
شَاكِرًا عَلِيمًا

کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر اگر تم
شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ۔ اور ہے اللہ
قدر شناس باخبر۔

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ
الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَ كَانَ اللَّهُ
سَمِيعًا عَلِيمًا

نہیں پسند فرماتا اللہ اعلانیہ بری بات کا کہا جانا
ماسوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا۔ اور ہے
اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا۔

إِنْ تُبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تُخَفَّوْهُ أَوْ
تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

اگر تم کھلم کھلا کرو گے بھلائی یا اس کو چھپاؤ گے
یا درگزر کرو گے برائی سے تو یقیناً اللہ ہے

عَفْوًا قَدِيرًا ﴿١٤٦﴾

معاف کرنے والا صاحب قدرت۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ
وَرُسُلِهِ وَ يَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضِ
وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَ يُرِيدُونَ أَنْ
يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٤٧﴾

یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور
اس کے رسولوں کے ساتھ اور چاہتے ہیں کہ
تفریق کریں درمیان اللہ اور اس کے رسولوں
کے اور کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں بعض
پر اور انکار کرتے ہیں بعض کا۔ اور چاہتے ہیں
کہ نکال لیں ان کے درمیان کوئی راہ۔

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا وَ
أَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٤٨﴾

یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں حقیقی۔ اور تیار کر رکھا
ہے ہم نے کافروں کے لئے عذاب ذلت کا۔

وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لَمْ
يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ
سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمُ ط وَ كَانَ اللَّهُ
عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٤٩﴾

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے
رسولوں پر اور نہیں تفریق کی کسی میں ان میں
سے۔ یہی لوگ ہیں عنقریب عطا فرمائے گا وہ
انہیں ان کا اجر۔ اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تَنْزِلَ
عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ
سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا

سوال کرتے ہیں تم سے اہل کتاب کہ اتار لاؤ
تم ان پر کتاب آسمان سے تو یقیناً یہ سوال
کرچکے ہیں موسیٰ سے بڑے اس سے

بھی۔ جب کہا انہوں نے دکھا ہمیں اللہ کو کھلم کھلا۔ سو آپکڑا انکو بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے۔ پھر بنا بیٹھے وہ بچھڑے کو (معبود) اس کے بعد کہ آپکی تھیں انکے پاس کھلی نشانیاں۔ پھر درگزر کیا ہم نے اس سے بھی۔ اور عطا کیا تھا ہم نے موسیٰ کو غلبہ صریح طور پر۔

أَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ
بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا
عَنْ ذَلِكَ وَ آتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطٰنًا
مُّبِينًا

اور اٹھایا ہم نے ان کے اوپر کوہ طور ان سے عہد لینے کو اور حکم دیا ہم نے انہیں کہ داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور حکم دیا ہم نے انکو کہ نہ حد سے بڑھنا سبت کے معاملے میں اور لیا ہم نے ان سے عہد بہت مضبوط۔

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ
وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا
لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا
مِنْهُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

پس بسبب اسکے کہ توڑ ڈالا انہوں نے اپنے عہد کو اور انکے کفر کرنے پر اللہ کی آیتوں سے اور انکے قتل کرنے پر انبیاء کے ناحق اور ان کے کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں۔ بلکہ مہر کر دی ہے اللہ نے ان پر انکے کفر کے سبب۔ پس نہیں ایمان لاتے وہ بلکہ بہت کم ہی۔

فِيمَا نَقَضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ وَ كَفَرِهِمْ
بِآيَاتِ اللّٰهِ وَ قَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَاءَ
بِغَيْرِ حَقٍّ وَ قَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا
غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا
بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا
قَلِيْلًا

اور بسبب انکے کفر کے اور انکے قول کے
مریم پر ایک بہتان عظیم۔

وَ بِكْفُرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ
بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾

اور انکے قول کے کہ یقیناً ہم نے قتل کر دیا
عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو۔ حالانکہ نہیں
قتل کیا انہوں نے اس کو اور نہ سولی پر چڑھایا
انہوں نے اسے لیکن صورت معلوم ہوئی
اسکی سی ان لوگوں کو۔ اور یقیناً وہ لوگ جنہوں
نے اختلاف کیا اس میں ضرور شک میں
پڑے ہوتے ہیں اسکے بارے میں۔ نہیں انکو
اسکا کوئی علم سوائے پیروی کے ایک گمان کی
۔ اور نہیں قتل کیا انہوں نے اسکو یقیناً۔

وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ
ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ
وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ
الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ
مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا
اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَ مَا قَتَلُوهُ
يَقِينًا ﴿١٥٧﴾

بلکہ اٹھایا اسکو اللہ نے اپنی طرف۔ اور ہے
اللہ غالب حکمت والا۔

بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ كَانَ اللَّهُ
عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾

اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور
ایمان لے آئے گا اس پر اسکی موت سے
پہلے اور قیامت کے دن ہو گا وہ ان پر گواہ۔

وَ إِنَّ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ
بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾

پس بسبب مظالم کے ان لوگوں کے جو یہودی تھے حرام کر دی تھیں ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں جو حلال تھیں انکے لئے۔ اور اس سبب سے کہ وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے کثرت سے۔

فَبِظْلَمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

۱۶۰

اور انکے لینے کے سود کے جبکہ منع کیا گیا تھا انکو اس سے اور انکے کھا جانے سے اموال لوگوں کے ناحق طریقے سے۔ اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لئے جو کافر ہیں ان میں سے عذاب درد دینے والا۔

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

۱۶۱

لیکن جو پختہ لوگ ہیں علم میں ان میں سے اور جو مومن ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تم پر اور جو نازل کیا گیا تم سے پہلے۔ اور قائم کرنے والے ہیں نماز کے اور دینے والے ہیں زکوٰۃ کے اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر اور روز آخر پر۔ یہی لوگ ہیں عنقریب جہنمیں دیں گے ہم اجر عظیم۔

لٰكِنِ الرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

۱۶۲

یقیناً وحی بھیجی ہے ہم نے تمہاری طرف جس طرح وحی بھیجی تھی ہم نے نوح کی طرف اور پیغمبروں پر اسکے بعد۔ اور وحی بھیجی تھی ہم نے ابراہیم کی طرف اور اسمعیل اور اسحق اور یعقوب اور اولاد (یعقوب) اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر۔ اور عنایت کی تھی ہم نے داؤد کو زور۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا

اور وہ رسول ہیں کہ بیان کر چکے ہیں ہم جن کے حالات تم سے اس سے قبل اور وہ رسول ہیں کہ نہیں بیان کئے جن کے حالات ہم نے تم سے۔ اور کلام فرمایا اللہ نے موسیٰ سے ایک باہمی کلام۔

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

سب رسول خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد۔ اور ہے اللہ غالب حکمت والا۔

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ لَعَلَّآ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس پر جو نازل کیا ہے

لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ

اس نے تم پر کہ نازل کیا ہے اس کو اپنے علم سے۔ اور فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ اور کافی ہے اللہ بطور گواہ۔

أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ
وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾

یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے بیشک بھٹک کر جا پڑے وہ گمراہی میں بہت دور۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾

یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کرتے رہے نہیں ہے اللہ کہ معاف کر دے انکو اور نہ ہی کہ دکھائے انہیں سیدھا راستہ۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾

سوائے راستے کے جہنم کے۔ رہیں گے وہ جہنم ہمیشہ۔ اور ہے یہ اللہ کے لئے آسان۔

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾

اے لوگوں یقیناً آگیا ہے تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تو ایمان لاؤ بہتر ہے تمہارے لئے۔ اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اور ہے اللہ سب

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ
وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ
إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى
مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ
وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً
خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ
سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا
فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى
بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

اے اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین
میں اور نہ کہو اللہ کے بارے میں سوائے حق
کے۔ درحقیقت مسیح عیسیٰ ابن مریم تمہارا رسول
اللہ کا۔ اور کلمہ تھا اس کا۔ جو اس نے بھیجا
تھا مریم کی طرف اور ایک روح اس کی طرف
سے۔ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اسکے رسولوں پر۔
اور نہ کہو (خدا) تین میں۔ باز آؤ کہ بہتر ہے
تمہارے لئے۔ درحقیقت اللہ معبود واحد ہے۔
پاک ہے اس سے کہ ہو اسکے اولاد۔ اسی کا
ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے
۔ اور کافی ہے اللہ کا ساز۔

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ
عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ
يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ
فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾

ہرگز نہیں عار ہو مسیح کو کہ ہو وہ بندہ اللہ کا
اور نہ فرشتے جو مقرب ہیں۔ اور جس نے عار
سمجھا اس کی عبادت کو اور تکبر کیا تو عنقریب جمع
کرے گا وہ ان کو اپنے پاس سب کو۔

سو وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک
 اعمال تو دے گا وہ انہیں ان کا پورا اجر اور مزید
 عنایت کرے گا انہیں اپنے فضل سے۔ اور
 پس وہ لوگ جنہوں نے عار کیا اور تکبر کیا تو دے
 گا وہ ان کو عذاب تکلیف دینے والا۔ اور نہ
 پائیں گے وہ اپنے لئے سوائے اللہ کے حامی
 اور نہ مددگار۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ
 فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا
 وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
 وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ
 وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾

اے لوگوں یقیناً آپکی ہے تمہارے پاس ایک
 روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے اور
 نازل کیا ہے ہم نے تمہاری طرف نور مبین۔

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ
 مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا
 مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾

پس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور پکڑے
 رہے مضبوطی سے اسکو تو عنقریب داخل کریگا
 انکو رحمت میں اپنی جانب سے اور فضل میں
 ۔ اور دکھائے گا انہیں اپنی طرف سیدھا رستہ۔

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا
 بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ
 وَفَضْلٍ ط وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ
 مُسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾

فتویٰ دریافت کرتے ہیں وہ تم سے۔ کہہ دو کہ
 اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلامہ کے بارے میں۔

يَسْتَفْتُونَكَ ط قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي
 الْكَلَامِ

اگر کوئی مرد مر جائے کہ نہ ہو جسکی اولاد اور ہو
اسکی ایک بہن تو اس کے لئے نصف ہے جو
اس (کے بھائی) نے ترکے میں چھوڑا۔

إِنْ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ
أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ^ج

اور وہ (بھائی) اس (مرنے والی بہن) کا
وارث ہو گا اگر نہ ہو اس (بہن) کی اولاد۔

وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ^ط

پھر اگر ہوں (اس مرنے والے بھائی کی) دو
بہنیں تو ان دونوں کے لئے دو تہائی اس میں
سے جو اس (بھائی) نے ترکے میں چھوڑا۔

فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثَيْنِ
مِمَّا تَرَكَ^ط

اور اگر ہوں (بھائی) بہنیں مرد اور عورتیں تو
مرد کے لئے برابر حصہ دو عورتوں کے۔

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

بیان فرماتا ہے اللہ تم سے کہ نہ بھگتے پھر و اور
اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَ اللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

